



## سوال

(587) ایک موضوع حدیث جو کہ صحیح نہیں ہے

## جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

ہمیں ایک خط موصول ہوا ہے جس میں ایک طبع شدہ ورقہ بھی ہے جسے لوگوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے یہ حدیث بھی لکھی ہوئی ہے کہ جو شخص نماز میں سستی کرے تو اللہ تعالیٰ اسے پندرہ سزائیں دے گا۔۔۔۔۔ ”خ۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ حدیث صحیح ہے؟

## الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

یہ ایک جھوٹی حدیث ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ یہ قطعاً صحیح نہیں جیسا کہ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ”میزان“ میں اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ”لسان المیزان“ میں بیان فرمایا ہے، لہذا جس شخص کو یہ ورقہ ملے اسے چاہئے کہ اسے جلادے اور جسے تقسیم کرتے ہوئے دیکھے اسے سمجھا دے تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع کیا جاسکے اور آپ کی سنت کو کذاب لوگوں کے کذب سے محفوظ کر لیا جائے۔ نماز کی عظمت و شان، اس میں سستی و غفلت سے بچنے کی تلقین اور سستی و غفلت کا مظاہرہ کرنے والے کی وعید کے بارے میں جو کچھ قرآن عظیم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صحیحہ میں موجود ہے وہ کاذبوں کے کذب سے بے نیاز کر دینے والا ہے۔ مثلاً ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿قُلُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوَسْطَىٰ وَتَوَمَّلُوا لِلَّهِ تَتَذَكَّرَ... سورة البقرة

” (مسلمانو!) سب نمازیں خصوصاً درمیانی نماز (یعنی نماز عصر) پورے التزام کے ساتھ ادا کرتے رہو اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ادب سے کھڑے رہا کرو۔“

نیز فرمایا:

﴿قُلْتُ مَنْ بَدَّيْهِمْ غَلَفَتْ أَمْثَلُ غُلْفًا وَالصَّلَاةُ وَالصَّلَاةُ وَالصَّلَاةُ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غِيَا... سورة مريم

” پھر ان کے بعد ایسے ناخلف ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور خواہشات نفسانی کے پیچھے لگ گئے، سو عنقریب ان کو گمراہی (کی سزا) ملے گی۔“

نیز فرمایا:



قَوْلِنَ لِلْمُضَلِّينَ ۚ اَلَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۝ ... سورة الماعون

”تولیسے نمازیوں کے لئے (جہنم کی وادی وبل یا) خرابی ہے جو اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں۔“

اس مضمون کی اور بھی بہت سی آیات ہیں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ:

«العبد الذي يبتئا ويختم الصلاة فمن تركها كفر» (سنن ترمذی)

”وہ عہد جو ہمارے اور ان کے مابین ہے، نماز ہے، جو اسے ترک کر دے وہ کافر ہے۔“ (احمد، اہل سنن باسناد صحیح) نیز آپ نے فرمایا ہے کہ

«بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة» (صحیح مسلم)

”آدمی اور کفر وشرک کے درمیان فرق، ترک نماز سے ہے۔“ (صحیح مسلم)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرات صحابہ کرام کے لئے رضی اللہ عنہم کے پاس نماز کا سن کر کہہ کر تے ہوئے فرمایا:

«من حافظها كانت له نوراً وبرهاناً ونجاة يوم القيامة ومن لم يحفظها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وشروط يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وابي بن خلف» (مسند احمد)

”جس نے نماز کی حفاظت کی تو نماز اس کے لئے قیامت کے دن نور، برہان اور ذریعہ نجات بن جائے گی اور جس نے اس کی حفاظت نہ کی تو روز قیامت اس کے پاس نہ نور، نہ برہان اور نہ ذریعہ نجات ہوگا بلکہ قیامت کے دن اسے فرعون، ہامان، قارون اور ابی بن خلف کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔“

بعض علماء نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ نماز ضائع کرنے والے کو روز قیامت ان کافروں کے ساتھ اس لئے اٹھایا جائے گا کہ اگر اس نے حکمرانی کی وجہ سے نماز کو ضائع کیا ہے تو وہ فرعون کے مشابہ ہے لہذا اسی کے ساتھ اسے روز قیامت جہنم رسید کیا جائے گا، اگر کسی نے اسے وزارت یا دیگر اہم منصبوں پر فائز ہونے کی وجہ سے ضائع کیا ہے تو فرعون، کے وزیر ہامان کے ساتھ اس کی مشابہت ہے لہذا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اسے جہنم رسید کیا جائے گا، اگر مال و دولت کی فروانی اور خواہشات نفسانی نماز کے ضائع کرنے کا سبب ہے تو اس کا یہ عمل اس قارون جیسا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اس کے گھر سمیت زمین میں دھنسا دیا تھا کہ مال و دولت کی فروانی اور خواہشات نفسانی کی وجہ سے اس نے تکبر کی روش اختیار کی اور حق کی اتباع نہ کی۔ لہذا ایسے شخص کا قیامت کے دن جہنم جاتے وقت قارون کے ساتھ حشر ہوگا اور اگر اس نے نماز کو تجارت اور دیگر امور و معاملات کی وجہ سے ضائع کیا تو اس کا یہ عمل مکہ کے تاجروں کے کافر سردار ابی بن خلف سے مشابہت رکھتا ہے، لہذا روز قیامت اسے ابی بن خلف کی رفاقت میں واصل جہنم کیا جائے گا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں عافیت عطا فرمائے اور ان اور ان جیسے دیگر کافروں کے حالات سے بچائے۔ (شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ)

حدا ما عندی واللہ اعلم بالصواب

## فتاویٰ اسلامیہ: جلد 1



## محدث فتوى